

بچوں کے لئے بائبل
تحائف

یونانہ بد گاد



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Jonathan Hay
Alastair Paterson

کے مطابق: Mary-Anne S.

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com


کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.


لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔




واریاه وری برونہ اوس یونانک اکھ شخص اسرائیلیکس سر
زمینس پیٹھ روزان۔ اکہ دوه۔ وون تمس خداوندن ژ گڑھ
ننیوا، یس ساروئے کھوتہ بوڈ تہ، دنیاہس
منز زیاد طاقت ور شہر اوس۔




یونا ہس اَس ساری لُوکھ تَتہ خبردار کرنِ زِ
خداوند چُھ زانان تِم کوتاہ بد کار اَس۔



يونان ٻن ڪر خداوند سنڌ نافرمانى - ننيوا گڙهنى بجائى،
يونان ڪهوت سمندري جهازس ته دراو اٿه مخالف
طرفه تارشش ناوچه جايه ڪن -



خداوند سؤز سمندرس منز آكه زبردست واو۔ آتہ ووتہ واریاہ بوڈ طوفان!
جہاز ران کھوڑ جہاز ما پھٹی تہ ڈوبہ۔




طوفان گوو خطرناک کھوتہ خطرناک۔ کھوڑمیتو جہازرانو، کور پنی خداین
دعا تہ تراوکھ سورئ سامان سمندرس جہاز لوڑ راؤنہ خاطر بون۔ مگر تمن
گوو نہ کائہ مدد۔



یونا اوس جہازس منز فقط اکھ سہ نفر یس نہ دُعا کران اوس۔ تُمہ بحائے، تُمی اُس
لَر تَرؤمتر تہ اوس مٹر نیندری۔ جہازکی کپتانن وچہ سہ۔ وونس، "شونگتہ کیاہ چہکھ
کران؟ تہود ووتہ! شاید خدا سونچہ اسی متلق، تاکہ اسی گڑھو نہ بری باد۔"



تمو جہازرانو کر ولی ولی فاصلہ ز تہندس مصیبتس اوس یونا ہنس ستی کینہتام
کرن۔ تمہ وون تمن سہ اوس خداوندس نش ژلان۔ تمو پرژوئس، "اسی کیاہ پزی
ژ ستی کرن، تاکہ سمندر گڑھی سانہ خاطر خاموش؟" یونا ہن دیت جواب،
"میہ تلو تہ تراوہم سمندرس منز۔ میہ چہ معلوم ز یہ زبردست طوفان
آو توہی صرف میانہ
وجہے ستی۔"



جہازران اُس نہ یڑھان یونا
دَارتہ دین۔ اوے کر تمو
زبردست کشمکش جہاز
زمینہ کُن نینچ۔ مگر، تمو
ہیک نہ کینہہ کریتہ۔ تہ
اوس صرف اکھ چیز گرن!






مافی خاطر دُعا کرنہ
پتہ۔ تمو جہازرانو تُل
یونا تہ گلو تہ تروو کہ
اکہ طرفہ۔ یوتھے یونا
لہرن منز غیب گوو،


سہ سمندر گوو خاموش تہ واو گوو ختم۔
موسمس منز اچانک تبدیلی ستی گوو تمن
جہازرانن طوفانکہ خوفہ کھوتہ زیادے پهن
خوف پاد۔ تمن اُس سا پتہ لجمثر
صرف ہیکہ ہے خوداوندہ ہوت یہ
کرتہ۔ تمو کر خوفس تہ پریشانی
منز خداوند سنز عبادت۔



اُتھِ دوران، تُمسِ نافرمان
پیغمبرسِ گیهِ اکھِ بڈ
حارانگی۔ یونا بچارِ اوس
سمندرکسِ ژکسِ تلِ وسان۔
تُمسِ اُسِ پتاهِ زِ تُمسِ ہیکہ نہ
کانہہ اُبسِ منزِ پھٹہ نہ نش
بچاوتہ۔ سہ ما آسہ ہے
ڈویموتِ تہ۔۔۔ پوزِ خدایس
اوسِ بدلئِ منشا۔



خداوندن اَس تهاؤمژ اکھ بڈ گاڈ تیار یس یونا ہس نینگلاؤی ہے۔ سہ گاڈ اَس
صحیح وقتس پیٹھ! اکھ گروٹھ والن تہ یونا درآو سمندر منز نیبر تہ ووت گاڈ ہندس
شکمس منز۔ یونا رُود گاڈ منز ترین دوہن۔ تُمس اوس
واریاہ وقت سونچنک تہ عبادت کرنہ باپتہ۔



تریو دوہو پتہ کور یونا ہن خوداپس آخر کار فرمانبردار روژنک وعدہ۔ خداین
کور گاڈ فورن حکم، تہ تمہ تراوو یونا بٹھس کن قسے کریتھ۔



خداین ووڻ یونا هس بیخه اکه لئه نینیا گزهن تته خدایه سندی
کلامک تبلیغ گرن. یونا گوو یمه وز! یونا ژاو شهرس منز کریکه
دیوان، "نینیا هس ییه ژتجهن دوین منز زیرو زبر گرنه."



نيواکيو لوکو کور خدایه سندس کلامس پيٽھ بروسہ۔ تمی درایہ فاعرے تہ ماتمی
لباس تراؤکھ نالی خدایس ہاونہ خاطر زِ تمن چھ پنن گوناہن پيٽھ افسوس۔ ہتا کہ
بادشاہن تہ کر خدایس برونہہ گنہ عاجزی۔ سہ ووتھ پنی تختہ پيٽھ بون، لوگن ماتمی
لباس تہ بیوٿھ سورس منز۔ تمی کور ہر کانسہ حکم زِ تم پھیرن بدکاری تہ تشدد
چہن وتو پيٽھی پتھ، تہ کرن دُعا
زِ خداوند دیہہ تمن مافی۔



خداین دژِ تَمَس مافی! یِه آسِه ہرے نینیوا کین لُوکن ہنْدِ خَاطِرِ اکھ عجیب
دوہ ییلہ تِمَن احساس گوو زِ خداین آسی

تِمَن مافی دژِ مژ۔۔۔

مگر اکس شخصس

آسِه سَخْت

شَرارت۔ یونا!



يونآ هس كياز آسہ شَرارت؟ تُمی وون
خدايس، "ميہ چہ پتاه زِ ژ چُھكہ
مہربان خودا، تہِ رحمِ كرنِ وول، شَرارتہ
خاطرِ لُت، تہِ رَحْمِ دِلِي مَنزِ بوڈ۔" دُويمِين
لفظنِ مَنز، يونآ اوسِ زانانِ زِ خدا چُھ
ہميشہ تِمَنِ مافي ديوانِ يمي گوناہو نش
توبہِ كرانِ چُھ تہِ خودائے سُنْدِ كلامچ
فرمابرداریِ كران۔ يہ چُھ باسانِ زِ يونآ اوس
نہ ننيوا كينِ لوكنِ پسندِ كران۔ سُه اوس نہ
يژھانِ يَمَنِ گژھی مافي دِنہِ پنی۔



یونا ہس اُس خدایس سترے تیژ شرارت زِ تُمی ووَن، "میاَنی زندگی نیہ؛ میہ چُھ
زندگی کھوتہ موت بہتھر۔"



يونآ بيوٽھ ٿمہ شہرِ نيبر، انتظارِ کران
وچھنہ زِ خدا کياہ کرِ وونی ٿمس سٿی۔ تمی
خداین کور آکھ بوڈ کل تيار يتھ بڊ پنه ووتھر
آس۔ ٲہ گوو جلد بوڈ، تہ يونآ ہس گوو سايہ،
بچوون سآرسيہ دوہس افتابہ کہ تثرِ نش۔




صبحو پتہ، سوز خداين آکھ کيؤم، يمي کل ختم کور۔ پتہ کور خداوندن آکھ
گرم، طاقتور واو تيار يمي يونآ ہس دماکہ توتام کور يوتام تُمس بأسيووو سُہ ما مَر۔
أمہ ستی گھڑ يونآ ہس زيادِ شرارت۔



پتہ وون خداوندن یونا ہس، "کیاہ ژ چہ یاه شرارت گرنک
حق؟ ژ آوے اکس دچھی راٹھ پیٹھ رحم، یمی خاطر نہ ژ
کانہہ کامی گریته تہ نہ گیہ بد۔ یہ گھڑ اکس راژ
منز تہ ختم گیہ اکس راژ منز۔ میہ کیاز پزی نہ

گرن نیوا، تتھس بدس
شہرس پیٹھ، رحم یتھ منز
ساسہ بد لوکھ چہ؟"



یونا تہ بڈ گاڈ

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

یونا

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

